

# ضلع اوساكا ہائ اسکول ہائ اسکول اسٹوڈنٹس سپورٹ فورم 2

[اسٹوڈنٹس خود درج کریں]

ضلع اوساكا \_\_\_\_\_ ہائ اسکول

آپ ہائ اسکول داخلہ ہونے کے بعد ایک سال گزار چکا ہے۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی اسکول کے روزانہ زندگی میں مختلف کاموں کا تجربہ ہوا ہے۔ آپ کے آئندہ اسکول کی زندگی کے لیے جن باتیں معلوم ہونا بہت اہم ہے کہ کونسا سبق یا تجربہ گریجویٹ ہونے کے بعد ضروری ہیں آپ اپنے گزشتہ تجربہ پر غور کریں۔ اس کام سے آپ کو اپنے بارے میں خود آگاہ ہوتا ہے۔ پھر آئندہ زندگی سوچنے کے بعد آپ کو تشویش بھی ہوگی اس فورم کا مقصد یہ ہے کہ گریجویٹ کے بعد کی زندگی اور آئندہ کے بارے میں آپ اسکول والوں سے آسانی سے مشورہ کر سکیں۔ آپ کے تعلیمی مشورہ یا راہنمائی وغیرہ کے موقعے میں اس فورم آپ کو خوب سہارا دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پھر ضرورت کے موافق انفرادی طور پر تعلیمی سپورٹ پروگرام اور گریجویٹ سپورٹ پروگرام بھی بنائے جائیں گے

اسٹوڈنٹس کا نام	
-----------------	--

دن \_\_\_\_\_ ماہ \_\_\_\_\_ سال \_\_\_\_\_ اندراج کا تاریخ

- × پیشکش کے لیے اس فورم کو تہ کر دیجیے
- × اس فورم کا اندر بھی اپنا نام درج کیجیے

I اپنے کردار اور تجربہ کو غور کریں موافق باکس کی تصدیق کریں

- 1 آپ کی اچھائی کی تصدیق کریں [موافق باکس کو سارا چیک کریں]
- پر سکون  خیال رکھنے والا  خوش مزاج  لچک دار  دوستانہ  سرگرم  سادگی  اس کے علاوہ  ملنسار  ہوش مند  حوصلہ مند  منفرد  مطمئن  پر تعاون

- 2 آپ کی کمزوری کی تصدیق کریں [موافق باکس کو سارا چیک کریں]
- غل مچانے والا  بے چین  ضرورت سے زیادہ محتاط  غافل  پریشان کن  سستی  مطلب پرست  اعصابی  گرم مزاجی  خود غرض  ضدی  اکیلے حد سے زیادہ سعی کرنا  اس کے علاوہ  مذہذب

اگر سیگن 1 و 2 میں "اس کے علاوہ" کا انتخاب کیا ہے تو اس کی تفصیلات درج کیجیے

کمزوری : اچھائی :

- 3 آپ کو اپنی ہائی اسکول کی زندگی میں کونسی پریشانی کے سامنے کرنا پڑا ہے [موافق باکس کو سارا چیک کریں]
- مواصلت  دوست کے ساتھ تعلقات  آگے بڑھانے کا راستہ  گریجویشن  ترقی  ریکارڈ  غیر حاضری  اسکول آنے میں دیر ہونا  اسکول سے احتراز  ستایا جاتا/ڈپٹ کیا جاتا  جنسی باتیں  زبان  زندگی کی ہدایت  تعین وقت تک پیش نہیں کیا  اسکول کا کام یا کتاب وغیرہ نہیں لے آیا  ( اس کے علاوہ  کلب کی سرگرمیاں  پارٹ ٹائم جاب

- 4 اب تک اسکول کی زندگی میں کسی پریشانی یا ناکامی کا تجربہ ہے تو حسب ذیل حالات میں سے سب سے مطابق والا ایک انتخاب کیجیے
- اسکول کے باہر سرگرمیاں اور ورزش وغیرہ  کلاس  اسکول کے رسوم اور کلب کے سرگرمیاں  لوگوں سے تعلقات  اس کے علاوہ  رضا کار  انٹرنشپ  پارٹ ٹائم جاب

اگر "اس کے علاوہ" کا انتخاب کیا ہے تو اس کی تفصیلات درج کیجیے

- 5 جب آپ کو اپنی پریشانی یا ناکامی محسوس ہوا تو کونسا کام کو عمل میں لایا ؟
- اس کے علاوہ  کچھ نہیں کر کہ چھوڑ دیا  خود حل کیا  دوست یا استا یا والدین سے مشورہ لیا

اگر "اس کے علاوہ" کا انتخاب کیا ہے تو اس کی تفصیلات درج کیجیے

- 6 اپنی گزشتہ پریشانی یا ناکامی کو کیسا محسوس کرتے ہیں ؟
- دو بارہ غلطی دہرا نہیں کرنے کے لیے ہوشیار ہوں  ماضی احساسات کو حل کیا ہے  پشیمان ہوں  اس کے علاوہ  از سر نو پھر سعی کرنا چاہتا ہوں

اگر "اس کے علاوہ" کا انتخاب کیا ہے تو اس کی تفصیلات درج کیجیے

## II گریجویشن کے بعد معاشرتی زندگی کا آغاز

1 آپ اپنے آئندہ پیشہ کے لیے کونسا کام سے دل چسپی لیتے ہیں؟ [موافق باکس کو سارا چیک کریں]

- 1 فرنیچر بڑھنی، خرد والا، ٹرین ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور، معمار، موٹر گاڑی مکینک، مشین انجینئر، (مشین چلانے، اشیا استعمال کرنے، جانوروں کو دیکھ بھال کرنے، چیزیں بنانے، گاڑی چلانے اور دوسرا جسمانی کام)\*
- 2 یونیورسٹی کا اساتذہ، محقق، فارماسسٹ، سسٹم انجینئر، (تحقیق کرنے، جانچ کرنے یا معلومات حاصل کرنے کا کام)\*
- 3 فیشن ماڈل، مانگا نگار، اداکار، مصنف، موسیقار، پیئر، (تخلیق کرنے یا اظہار کرنے یا ڈیزائن تیار کرنے یا اپنے جذبات کو عملی کام میں لانے والا پیشہ)\*
- 4 مشورت دینے والا، استاد/استانی، فروخت کا عملہ، پولیس افسر، تیمار داری کا کام کرنے والا، تیمار دار، (لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے یا لوگوں کو پڑھانے یا مدد کرنے یا سہارا دینے والا کام)\*
- 5 سیاست دان، دکان دار، کمپنی کا منتظم یا افسر اعلیٰ، (منصوبہ بنانے، انتظام کرنے، راہنما بننے، اشارا کرنے یا بند و بست کرنے کا کام)\*
- 6 کنٹرول افسر، ٹیکس اکاونٹنٹ، نقل نویس، اکاونٹنٹ، کلرک، (ٹھیک بند و بست کرنے یا حساب کرنے یا چیزیں کو ترتیب دینے یا یک سان کام دہرانے یا فیصلہ شدہ کام کرنے والا کام)\*
- 7 غیر فیصلہ شدہ

2 آپ آئندہ میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ [تفصیل میں لیکھیں جیسا کہ "میں یوں باننا چاہتا ہوں"]

## III سلامتی اور اطمینان سے ہائ اسکول کی زندگی گزارنے کے لیے [موافق باکس کو چیک کریں]

1 ہائ اسکول کی زندگی میں آپ کو جن واقعات کا سامنے پڑا ہے کہ ان کی وجہ سے اسکول نہیں آ سکا؟

- اگر آپ نے "جی، ہاں" انتخاب کیا ہے تو ان واقعات کے تفصیلات حتی الامکان درج کیجیے \* جی، نہیں  جی، ہاں

2 جن کاموں آپ سرگرمی سے کر رہے ہیں یا جس نقطہ آپ دوسروں کی جانب سے قدر دانی چاہتے ہیں ان سارا باتیں لیکھ دیجیے